

سٹی آف برامپٹن خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مختلف مفید تقریبات منعقد کر رہا ہے

برامپٹن، آن (24 فروری 2022) – سٹی آف برامپٹن 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن مناتا ہے تاکہ برامپٹن کی رہائشی ایسی خواتین کی کامیابیوں اور ان کے خوشگوار اثرات کے حوالے سے آگاہی پیدا کی جا سکے جنہوں نے برامپٹن کو آج ہمارے لیے رہنے کے قابل، قابل رشک اور ایک خوشحال شہر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے پینل بات چیت اور کلیدی خطاب
8 مارچ، شام 5 - 7 بجے تک

زونٹا کلب آف برامپٹن کیلیڈون (Zonta Club of Brampton-Caledon) کے ساتھ شراکت میں، سٹی آف برامپٹن دو، بالمشافہ پینل مباحثے پیش کرے گا جن کی میزبانی جیم گیمبل (Jam Gamble) کریں گے اور یہ کونسلرز شامین ولیمز اور رووینا سینٹوس کی زیر سرپرستی منعقد کیے جائیں گے۔

- خواتین کے خلاف تشدد کو نہ کہیں: انسانی خرید و فروخت
- مقامی خواتین اور وہ برامپٹن میں خواتین کو باختیار بنانے کے منظر نامے میں کیسے اپنا کردار ادا کرتی ہیں

ان نشستوں کے بعد، ثمرہ ظفر، ایوارڈ یافتہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسپیکر، سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اشاعتوں کی مصنفہ اور مساوات، ذہنی صحت اور انسانی حقوق کی علمبردار ایک کلیدی خطاب پیش کریں گی۔

اس نشست میں ماہرین اور کمیونٹی پارٹنرز ان اہم موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔

اس تقریب کے تعاون کنندہ کوکا کولا کینیڈا بوٹلنگ لمیٹڈ کا بصد شکریہ۔

خواتین کے عالمی دن کی تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں: brampton.ca/IWD

ایکسپیریننس باکس

محدود ایڈیشن کے ساتھ خوبصورت طریقے سے تیار کردہ ان خصوصی گفٹ باکسز میں مقامی خواتین کے ملکیتی کاروباروں کی مصنوعات اور خدمات شامل ہیں۔ تمام باکسز میں درج ذیل چیزیں شامل ہوں گی:

- Moodgxl کی جانب سے ہائیڈریٹنگ فیس ماسک
- سنکلیا پروجیکٹ کی جانب سے تصدیقی کارڈ
- اروما کمفرٹس U 4 کی جانب سے ہاتھ بمز
- فروٹس اینڈ روٹس ہولسٹکس کی جانب سے ہربل ہاتھ
- اور مزید بہت کچھ!

باکس پہلے 50 ایسے لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو [این باؤس](#) کو کم از کم \$20 کا خیراتی عطیہ دیں گے۔

چھوٹے کاروباروں کو با اختیار بنانا

برامپٹن انٹرپرائیور سنٹر کو تین آنے والی تقریبات کی معاونت کرتے ہوئے خوش محسوس ہو رہی ہے، جو صنفی مساوات کو فروغ دینے پر بحث کریں گے، خواتین لیڈروں کے ساتھ بامعنی گفتگو کریں گے اور ہماری کمیونٹی میں موجود کاروباری خواتین کی خوشیوں کو منائیں گے۔

- 2 مارچ: [InspiHer](#) برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے زیر اہتمام
- 9 مارچ: [BreakTheBias#](#) [دی چینجنگ فیس آف کینیڈا](#) [ورک پلیس](#) برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کے زیر اہتمام
- 10 مارچ: [IWD2022 #BreakTheBias](#) سٹارٹ اپ پیل کے زیر اہتمام

اقتباسات

"خواتین کے اس عالمی دن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی میں موجود ایسی بلند حوصلہ خواتین کی کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے برامپٹن کو آج جو کچھ بنا دیا ہے۔ میں زونٹا کلب برامپٹن کیلیڈون کی جانب سے ایک بامعنی بات چیت میں حصہ لینے اور ایوارڈ یافتہ اسپیکر، ٹمرہ ظفر کی جانب سے ایک پرجوش کلیدی خطاب کے پروگرام میں 8 مارچ کو شرکت کرنے کے لیے ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر، ہم مکمل صنفی مساوات کے حصول کے لیے نظام میں تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے اس شہر پر اپنا عظیم اثر چھوڑا ہے۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ٹمرہ ظفر، جیم گیمل اور زونٹا کلب برامپٹن کیلیڈون کچھ اہم بات چیت میں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے۔"

- روینہ سینٹوس، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5

"خواتین کا یہ عالمی دن ہم خواتین کی قوت اور طاقت کا جشن مناتا ہے، جو ہماری کمیونٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھیں اور جو اب بھی ہیں۔ 8 مارچ کو ہمارے ساتھ بالمشافہ پینل بات چیت اور کلیدی پروگرام میں شامل ہوں تاکہ ہم کمیونٹی میں انسانی اسمگلنگ کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں، صنفی تعصب اور دیگر ایسے بہت سے موضوعات کے بارے میں بات چیت کریں۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے بہت سارے کمیونٹی پارٹنرز کے درمیان تعاون کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے۔"

- شارمین ولیمز، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8

"8 مارچ اور ہر روز، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی خواتین کی اہم کامیابیوں کا جشن منائیں اور ان کی اہمیت کو تسلیم کریں۔ سٹی آف برامپٹن کی ٹیم ایسی حیرت انگیز خواتین پر مشتمل ہے جو اس تنظیم اور کمیونٹی کو ایک ساتھ رکھتی ہیں، کامیابیوں اور ترقی کی جانب گامزن کرتی ہیں۔"

- پال مورینسن، انٹیرم چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca